HEMAYAH
EFU FAMILY TAKAFUL

BankIslami

EFU NIGEHBAAN PLAN

A DISCIPLINED SAVINGS PLAN THAT BOOSTS YOUR SAVINGS

EFU Nigehbaan Plan

We all desire to accomplish our dreams and support our loved ones. We strive hard to achieve our goals, while simultaneously supporting those who are dependent on us to fulfill their objectives. With sound financial planning, it is possible to turn your dreams into reality. It is an investment-linked takaful product with the aim to provide you customized solution as per your need, EFU Life-Window Takaful Operations offers Nigehbaan Plan, a Shariah compliant savings and protection plan that provides a significant growth to your savings over a period to give you significant returns.

This plan has been reviewed and approved by the Shariah Advisor of EFU Life- WTO, Mufti Muhammad Ibrahim Essa who is a prominent scholar from Jamiah Darul Uloom Karachi and has a vast experience of Islamic finance and Takaful.

Disclosure of Product:

This is a Family takaful product which has two distinct elements i.e., Protection and Investment. The Investment Component is linked to the performance of underlying assets under unit linked fund(s).

Free Look Period:

If you decide to cancel your membership within fourteen days of receiving the membership document, you are entitled for a full refund of Contribution as a benefit less any expenses incurred by EFU Life - WTO in connection with our medical or clinical examinations

Opportunities for Growth:

All available funds are categorized with their risk profiling as per the investment criteria.

Funds		
EFU Takaful Growth Fund	**EFU Takaful Conservative Fund***	**EFU Takaful Aggressive Fund**
Fund Categorization: Balanced	**Fund Categorization: Income Fund**	**Fund Categorization: Aggressive**
Risk Profile: Medium	**Risk Profile: Low**	**Risk Profile: High**
A unit-linked Participants' Investment Account (PIA) comprising Shariah-Compliant investments. The objective of the fund is to maximize capital growth by investing in a portfolio spread across a wide range of investments such as Islamic mutual funds, approved equities, term deposits in Islamic Banks, and Sukuk Bonds	EFU Takaful Conservative Fund has a conservative investment allocation strategy and low risk. This is a unit-linked Participants' Investment Account (PIA) comprising Shariah-compliant government securities, non-equity Shariah coplant mutual funds, Shariah-compliant short-term deposits, and cash in Islamic banks or Islamic windows of conventional banks. The fund aims to provide stable investment returns with minimal risk and is suitable in times of the volatile stock market	A unit-linked Participants' Investment Account (PIA) comprising Shariah-Compliant investments, aimed at maximizing capital growth by using investments with an aggressive market outlook.

Multiple Funds Option: Under this option you have a facility to select a mix of two unit linked funds of the plan. Fund mix can be selected in the multiples of 10%. It means that the funds split can be of 90/10, 80/20, 70/30, 60/40 or 50/50.

*EFU Takaful Conservative Fund to be selected by default

What is Takaful?

Takaful is a Shariah compliant way of safeguarding yourself and your family against future financial losses. A Takaful product assists participants to share their risk on the basis of cooperation, brotherhood, mutuality and solidarity for the common good.

How does the Takaful Membership operate?

EFU Life's Takaful model is founded on the Wakalah-Waqf principle. Individuals in the community come together for a common purpose and contribute into a Waqf Fund operated by a Takaful Operator to protect themselves against future financial losses. The following pictorial representation summarizes how your Takaful membership will operate with EFU Life - WTO:



What is Surplus Sharing?

Takaful offers a unique feature of Surplus Sharing to the Participants in addition to risk mitigation benefits. By contributing Tabarru (donation) into the Participant's Takaful Fund (PTF), the participant may be entitled to a share of possible surplus funds. At the end of each year, EFU Life –Window Takaful Operations will determine the surplus in the PTF based on the method approved by the Shariah Advisor and Appointed Actuary.

What are the benefits of Surplus Sharing?

A part of the surplus may be distributed back to the participant in the form of Bonus Units through additional unit allocation in the Participant's Investment Account (PIA). These Bonus Units will enhance the Cash Value of your Takaful plan.

Waqf Donation:

Waqf Donation, which depends on the Takaful cover and age of the Participant, will be transferred from Basic Plan Contribution into Participants Takaful Fund (PTF).

Benefit:

Death Benefit:

The moment you start saving with EFU Nigehbaan Plan, you will have a guaranteed level of Takaful protection. In case of the unfortunate death of the participant, the following benefits will be payable to the beneficiaries:

- Greater of Main Plan Sum Covered OR Cash Value of the Main Plan

PLUS

- Cash Values of units against any Fund Acceleration Contribution

Maturity Benefit:

At the end of the membership term and whilst the participant is alive, the maturity benefit will be payable as follows:

- The Basic cash value of Participant's Investment Account (PIA)

Plus

- The cash value from Fund Acceleration Contributions in the Participant's Investment Account.

Sum Covered:

It is the amount payable on death. The Sum Covered is determined as the Basic Plan Annual Contribution multiplied by the "protection Multiple", which may be selected from a range depending on the age at entry as illustrated.

Age	Minimum	Maximum
18-35	5	75
36-40	5	50
41-49	5	25
50-60	5	10
61-65	5	5

Built- in Pilgrimage Benefit (Accidental Cover):

During the Plan term, if the Participant travels for religious pilgrimage, EFU Life - WTO offers coverage on death due to an accident while performing pilgrimage (Hajj, Umrah or Ziarat etc.) The coverage under this built-in accidental benefit will be 100% of the Main Plan Sum Covered from Participants' Takaful Fund, subject to a maximum limit of PKR 1 million. This feature will be applicable for an additional period of 13 months from the date of maturity or on full surrender.

Optional Benefits:

The Plan also offers various supplementary benefits which may be attached to it in order to enhance the Takaful protection. These supplementary benefits are:

- **Takaful Accidental Death Benefit*:**

In case of accidental death of the participant, this rider provides an additional sum covered benefit.

- **Takaful Accidental Death and Disability Benefit*:**

In case of accidental death or disability of the Participant, this rider provides an additional lump sum benefit.

- **Takaful Accidental Death and Disability Benefit Plus*:**

This rider provides an additional lump sum benefit in case of an accidental death or disability (permanent & total) that makes you permanently disabled.

- **Additional Term Takaful:**

In many circumstances, such as having many family dependents or young children, you may feel that the Basic Sum covered would not provide sufficient financial protection in the unfortunate event of your death. The Additional Term Takaful Benefit enables you to increase the level of life cover.

- **Takaful Waiver of Contribution Benefit:**

In case the individual is unable to follow his/her occupation due to disability because of sickness or accident, the contribution of the plan would be made by WAQF Fund/PTF managed by EFU Life- WTO.

- **Takaful Life Care Enhanced Benefit:**

Critical illness covers which provides a cash sum upon the diagnosis or occurrence of the 20 pre-defined critical illnesses.

- **Kafalat Benefit:**

This benefit ensures that a monthly income is paid to the family of the participant, in case of an unfortunate event of his death.

*__only one of the Accidental Death Benefit can be selected.__

Contribution Allocation:

Year-wise allocation percentages of the participant's contribution are shown in the table below:

Year	Allocation	Allocation Charges*
Year 1	60%	40%
Year 2	80%	20%
Year 3	90%	10%
Year 4 to 5	100%	0%
Year 6 & onwards	105%	0%

100% of FAC payments are allocated to purchase units in the selected fund.

***Allocation Charges will be deducted from the Paid Contribution every year as per the above table and the remainder will be allocated to the PIA.**

Allocation Booster:

For continuously enforced policies, the plan provides valuable bonus allocation to boost the fund accumulation. The extra unit allocation is as follows:

Policy year	Bonus allocation %
7	5%
10	7%
15	9%
20	12%
25	17%
Except every 5th year, starting Year 30, 35 & so on	20%

Fund Acceleration Contribution (FAC):

In case the Participant has extra funds available, the plan provides the flexibility to channel these to the Plan and provide a boost to the savings. These lump sum contributions are called Fund Acceleration Contributions (FAC) and can be paid anytime during the year where policy is active. 100% of FAC payment are allocated to purchase units in the selected fund.

Complete and Partial Surrender:

WTO will charge an additional Wakalat-ul-Istismar fee equivalent to 50% of the total cash value in case of surrender before payment of two full-year contributions. At the time of withdrawal, you will be paid the full cash value of your fund. However, withdrawal in early membership years may result in lower cash value. A facility for partial withdrawls is also available subject to Rs. 20,000 remaining in the fund if the customer ops for complete surrender, all units will be encashed and the plan will be terminated.

Indexation:

Under this option, the regular contribution will increase every year by 5% of previous year's contribution with appropriate increase in benefits, without any medical evidence. Similarly, the sum covered of the main plan and any additional riders, will increase in the same proportion. However, one may opt to increase only the contribution while keeping the sum covered at the initial level.

Claim:

In case of an unfortunate event, you may file your claim intimation through any BankIslami Branch walk in, visiting the EFU Head Office or by visiting any of the EFU branches in the country. For a swift speedy process you may also call us at our call center (021-111-338-436) or simply visit our website, fill in the intimation form and email it to us at cod@efuhemayahtakaful.com. Thereafter, you will be contacted for next steps.

Frequently Asked Questions:

What is the Applicable age and tenure?

The participant should be between 18 and 65 years old. However, the maximum age at maturity cannot be more than 75 years. The term of the Takaful contract can vary between 10 and 57 years; subject to a maximum age of 75 at maturity.

What the minimum contribution requirements?

For the participants the minimum contribution is 24,000 annually.

What are the charges?

Charges	Rate / PKR
Administration Charge	Rs. 150 per month
Investment Management Charge	0.125% of the fund value per month
Bid/Offer Spread	5% of the net contribution
Allocation charges	As per the above ''Unit Allocation'' table
Additional Wakalat-ul-Istismar fee	An additional Wakalat-ul-Istismar fee equivalent to 50% of the total cash value will be charged in case of surrender before payment of two full-year contributions.

Takaful Donation (Waqf Donation):

An age-based Takaful Donation applies for the Takaful cover each year and is dependent on the sum at risk. No Takaful Donation charges applies in years where the cash value exceeds sum covered.

Wakalah Charge:

40% of the Takaful Donation.

Disclaimer:

• This is underwritten by EFU Life - Window Takaful Operation. It is not guaranteed or covered by BankIslami or its affiliates and is not a BankIslami product.

• BankIslami is only acting as a corporate takaful agent and distributor of the Takaful policies on behalf of EFU Life - Window Takaful Operations.

• Arrangement of Takaful Claims, charges and payments relating to the Takaful Policies shall be the sole and exclusive responsibility of EFU Life- WTO.

• The past performance of the fund is not necessarily a guide to future performance. Any forecast made is not necessarily indicative of future or likely performance of the fund and neither EFU Life-WTO, nor BankIslami will incur any liability for the same.

• Please note that investment risk in the selected fund is borne by the participant.

• A personalized illustration of benefits will be provided to you by representative. Please refer to the notes in the illustration for a detailed understanding of the various Terms and Conditions.

• Taxes will be applicable as per the taxation Laws as stipulated by the relevant authorities.

• A description of how the contract works is given in the Participant Membership Documents. This product's brochure only gives a general outline of the product's features and benefits.

• If you have any grievance regarding your Takaful Policy, you may contact EFU Life Window Takaful Operations on (021) 111-EFU-HEM (111-338-436).

LIFE

HEMAYAH
EFU FAMILY TAKAFUL

بسم الله الرحمن الرحيم

SHARIAH COMPLIANCE CERTIFICATE
UNDER RULE 26(1)(e) OF TAKAFUL RULES, 2012
FOR EFU LIFE ASSURANCE LTD – WINDOW TAKAFUL OPERATIONS

In the capacity of Shariah Advisor of EFU Life Assurance Ltd – **Window Takaful Operations**, I certify that I have reviewed the EFU Nigehbaan Plan marketed through BankIslami. It is based on the **Wakalah-Waqf** takaful model. I have also examined all relevant processes and documents including the Participants Membership Document.

Based on Shariah rulings and to the best of my knowledge and belief, the **EFU Nigehbaan Plan** of EFU Life Assurance Ltd – Window Takaful Operations, investment policy of the Takaful fund, relevant documents and processes are all Shariah compliant.

In my opinion, it is permissible from the Shariah point of view to obtain membership in this product and benefit from it. And Allah knows the best

Dated: 30th June 2024

مفتی
محمد ابراھیم عیسی
شریعہ ایڈوائزر
حمایہ
ای ایف یو لائف۔ ونڈو تکافل آپریشنز

Mufti Muhammad Ibrahim Essa
Shariah Advisor

EFU LIFE ASSURANCE LTD.

EFU Life House, Plot No. 112, 8th East Street, Phase I, DHA, Karachi, Pakistan

Fax: (021) 3453-7519 Email: csd@efuhemayahtakaful.com

HEMAYAH

EFU FAMILY TAKAFUL

BankIslami

ای ایف یو نگہبان پلان

منظّم بچت پلان، جو دے بچت کو فروغ

ای ایف یو نگہبان پلان

ہم سب اپنے خوابوں کے حصول کی اور اپنے پیاروں کی مدد کی آرزو کرتے ہیں۔ ہم اپنے اہداف حاصل کرنے کے لئے سخت جدوجہد کرتے ہیں اسی کے ساتھ ان کے مقاصد کے حصول میں ان کی مدد بھی کرتے ہی جو ہم پر انحصار کرتے ہیں۔ مستحکم مالیاتی منصوبہ بندی کے ذریعے، آپ کے لئے اپنے خوابوں کو حقیقت میں تبدیل کرنا ممکن ہے۔ یہ ایک تکافل انویسٹمنٹ لنکڈ پروڈکٹ ہے جس کا مقصد آپ کی ضرورت کے مطابق آپ کو وضع کردہ حل فراہم کرنے کیلئے ای ایف یو لائف ونڈو تکافل آپریشنز پیش کرتا ہے ای ایف یو نگہبان پلان، شرعی اصولوں کے مطابق بچت اور تحفظاتی پلان ہے جو آپ کی بچتوں پر وقت کے ساتھ مستحکم منافع فراہم کرتا ہے۔ یہ پلان، ای ایف یو لائف ونڈو تکافل آپریشنز کے شریعہ مشیر جناب مفتی محمد ابراہم عیسیٰ سے منظور شدہ ہے جو کہ جامعہ دارالعلوم کراچی سے فارغ التحصیل ایک مستند عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ اسلامی مالیات اور تکافل کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔

پروڈکٹ کا اظہار:

اس فیملی تکافل پروڈکٹ کی دو نمایاں خصوصیات یہ ہیں: تکافل کا تحفظ اور سرمایہ کاری۔ سرمایہ کاری منسلک ہے یونٹ لنکڈ فنڈ (فنڈز) میں موجود اثاثہ جات کی کارکردگی سے

غور و فکر کا دورانیہ (فری لک پیریڈ):

اگر آپ میمبیر شپ دستاویز کی وصولی کے چودہ دن کے اندر اپنی رکنیت منسوخ کرنے کا فیصلہ کرتے ہین تو ای ایف یو لائف۔ ونڈو تکافل آپریشز بطور فائدے کے طبی یا کلینکل معائنہ کے سلسلے میں پیش آنے والے اخراجات منہا کر کے کنٹریبیوشن کے مساوی رقم کی ادائیگی کا انتظام کرے گی

بڑھوتری اور نشو و نما کے لئے مواقع:

تمام فنڈز کی رسک پروفائیلنگ ان میں کی جانے والی سرمایا کاری کے تحت کی گی ہے

فنڈز		
ای ایف یو تکافل گروتھ فنڈ	ای ایف یو تکافل کنزرویٹو فنڈ*	ای ایف یو تکافل ایگریسو فنڈ
فنڈ کی قسم: متوازن	فنڈ کی قسم: انکم فنڈ	فنڈ کی قسم: ایگریسو
رسک پروفائل: درمیانی	رسک پروفائل: کم	رسک پروفائل: زیادہ
یہ یونٹ سے منسلک ایک شرکاء تکافل سرمایہ فنڈ (پی آئی ایف) ہے جو شریعت کے مطابق سرمایہ کاریوں پر مشتمل ہے۔ فنڈ کا مقصد ایک پورٹ فولیو کے پھیلاؤ میں سرمایہ کاریوں کی ایک وسیع رینج میں جیسے کہ اسلامک میوچل فنڈز، منظور شدہ مالی ایکوٹیز، اسلامی بینکوں میں ٹرم ڈپازٹ اور صکوک بانڈز جیسی اسکیموں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کر کے حاصل شدہ سرمائے کو زیادہ سے فروغ دینا ہے۔	ای ایف یو تکافل کنزرویٹو فنڈ سرمایہ کاری کی تخصیص کی ایک محتاط حکمت عملی رکھتا ہے اور اس میں کم خطرہ شامل ہوتا ہے۔ یہ شریعت کے مطابق حکومتی سیکیو رٹیز، شریعت کے مطابق غیر ایکوٹی میوچل فنڈز، شریعت کے مطابق قلیل المدت ڈپازٹس، اسلامی بینکوں میں یا مروجہ بینکوں کی اسلامک ونڈوز میں دی جانے والی حدمات میں نقد پر مشتمل یونٹ سے منسلک شرک تکافل سرمایہ کاری فنڈ (پی آئی ایف) ہے۔	یہ یونٹ سے منسلک شرکاء تکافل سرمایہ کاری فنڈ (پی آئی ایف) ہے جو شریعت کے مطابق سرمایہ کاری پر مشتمل ہے۔ اس کا مقصد مارکیٹ کی متوقع تیزی کو مدنظر رکھتے ہوئے سرمائے کو زیادہ سے زیادہ فروغ دینا ہے۔

متعدد فنڈز کی سہولت (ملٹیپل فنڈز آپشن): اس سہولت کے تحت، آپ پلان کے یونٹ سے منسلک دو فنڈز کے مرکب کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ فنڈ کو 10 فیصد کے ملٹیپل کے تحت منتخب کیا جا سکتا ہے۔ اسکا مطلب ہے کہ فنڈز کو 10/90، 20/80، 30/70، 40/60 یا 50/50 میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔

***ای ایف یو کنزرویٹو فنڈ خودکار طور پر منتخب کیا جائے گا**

تکافل کیا ہے؟

تکافل ماہرینِ شریعت کی زیرِ نگرانی تیار کردہ باہمی تعاون کے اصولوں پر مبنی تحفظ اور سرمایہ کاری کا طریقہ کار ہے جو اسلامی اصولوں کے مطابق آپ کو اور آپکے پیاروں کو مستقبل میں آنے والی مالی پریشانیوں ہر مسائل سے تحفظ فراہم کرتا ہے۔ تکافل پروڈکٹس کے ذریعے باہمی تعاون اور بھائی چارے کی بنیادوں پر تکافل پلان کے شرکاء کو غیر متوقع جانی اور مالی نقصانات کی صورت میں مالی تعاون فراہم کیا جاتا ہے۔

تکافل ممبرشپ کیسے کام کرتی ہے؟

ای ایف یو لائف کا تکافل ماڈل وکالۃ وقف کے اصولوں پر مبنی ہے جس میں معاشرے کے کچھ افراد ایک اجتماعی مقصد کے لئے یکجا ہوتے ہیں اور تکافل آپریٹر کے زیرِ انتظام وقف فنڈ میں پیسے جمع کرتے ہیں تاکہ وہ خود کو مستقبل میں ہونے والے مالی نقصانات سے محفوظ کر سکیں۔ درج تصویری خاکہ اس چیز کا خلاصہ بیان کرتا ہے کہ آپ کی تکافل رکنیت ای ایف یو لائف ونڈو تکافل آپریشنز کے ساتھ کس طرح کام کرے گی:



سرپلس شیئرنگ کیا ہے؟

یہ تکافل پلان شریک تکافل کو مالی خطرات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ سرپلس کی تقسیم کی منفرد خصوصیت بھی پیش کرتا ہے شریک تکافل وقف فنڈ میں تبرع کی بنیاد پر زرِ تکافل دے کر وقف کی شرائط کے مطابق سرپلس کی تقسیم میں حصے دار بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر سال کے آخر میں، ای ایف یو لائف اپنے شریعہ مشیر اور مقرر کردہ ایکچوری کی منظوری سے قابل تقسیم سرپلس کا تعین کرے گی۔

سرپلس شیئرنگ کے فوائد کیا ہیں؟

اضافی سرمایے کا ایک حصہ پارٹیسپنٹس انویسمنٹ اکاونٹ (پی آئی اے) میں شامل کیا جاتا ہے۔ یہ اضافی یونٹس/ بونس آپ کے پلان کی نقد مالیت پر بہ حیثیت مجموعی مثبت اثر ڈالتے ہوئے، اس میں نمایاں اضافہ کرتے ہیں۔

تبرع برائے وقف:

شریکِ تکافل کی عمر اور زرِ تحفظ کو مدِ نظر رکھتے ہوئے زرِ تکافل سے کچھ رقم پارٹیسپنٹس تکافل فنڈ (پی ٹی ایف) میں منتقل کی جائے گی۔

فوائد:

فوائد بصورت فوتگی: جیسے ہی آپ ای ایف یو نگہبان پلان کے ساتھ بچت شروع کرتے ہیں آپ کو ایک گارنٹیڈ تکافل تحفظ حاصل ہوتا ہے۔ شریک تکافل کی ناگہانی وفات کی صورت میں نامزد افراد (بینفشرز) کو مندرجہ ذیل فوائد ادا کئے جاتے ہیں

- بنیادی پلان کا زرِتحفظ یا بنیادی پلان کی نقد مالیت (ان میں جو بھی زیادہ ہو)

پلس

- اضافی اختیاری کنٹریبیوشنز کی نقد مالیت

میچورٹی بینیفٹ: ممبر شپ کی مدت کے اختتام پر ادا کئے جانے والا میچورٹی بینیفٹ درجہ ذیل ہے:

- پارٹیسپنٹس انویسمنٹ اکاونٹ (پی آئی اے) کی نقد مالیت

پلس

- پارٹیسپنٹس انویسمنٹ اکاونٹ (پی آئی اے) میں اضافی اختیاری کنٹریبیوشنز کی نقد مالیت

سم کوورڈ:

شریک تکافل کی وفات پر ضمانت شدہ رقم ادا کی جاتی ہے۔ یہ عمر کے مطابق دی گئی رینج سے منتخب کیا جاسکتا ہے۔ بنیادی سالانہ کنٹریبیوشن کو "پروٹیکشن ملٹپل" سے ضرب دے سم کوورڈ کا تعین کر کے درج ذیل ٹیبل میں سے منتخب کیا جاتا ہے:

عمر	کم سے کم	زیادہ سے زیادہ
18 سے 35 سال	5	75
36 سے 40 سال	5	50
41 سے 49 سال	5	25
50 سے 60 سال	5	10
61 سے 65 سال	5	5

خودکار (بلٹ ان) حج / زیارت بینیفٹ:

پلان کی مدت کے دوران، شریک تکافل مذہبی ارکان کی ادائیگی کے لئے سفر کرتا ہے، ای ایف یو لائف ونڈو تکافل آپریشنز (حج، عمر یا زیارت وغیرہ) کے فرائض کے انجام کے دوران حادثاتی وفات تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اس خودکار حادثاتی فائدے کے تحت ملنے والا فائدہ پارٹیسپنٹ تکافل فنڈ سے اصل پلان کے زرِتحفظ کا 100 فیصد ہوگا، جو کہ زیادہ سے زیادہ دس لاکھ روپے کی حد سے مشروط ہے۔ اس فیچر کا میچورٹی کی تاریخ سے یا مکمل دستبرداری سے 13 مہینے کے اضافی دورانیے کے لئے اطلاق ہوگا۔

ضمنی فوائد:

- **تکافل ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹ*:**

یہ فائدہ شریک تکافل کی حادثاتی وفات پر ایک اضافی رقم فراہم کرتا ہے۔

- **تکافل ایکسیڈنٹل ڈیتھ اینڈ ڈس ایبیلٹی بینیفٹ*:**

شریک تکافل کی حادثاتی وفات یا معذوری کی صورت میں، یہ فائدہ فنڈز فراہم کرتا ہے۔

- **تکافل ایکسیڈنٹل ڈیتھ اینڈ ڈس ایبیلٹی پلس بینیفٹ*:**

حادثاتی وفات یا معذوری کی صورت میں (جزوی یا مستقل) جو آپ کو مستقل طور پر معذور کر دے، یہ اختیاری بینیفٹ اںک اضافی یکمشت فائدہ فراہم کرتا ہے۔

- **ایڈیشنل ٹرم تکافل:**

بہت سے حالات میں، جیسے کہ خاندان میں زیادہ افراد اور چھوٹے بچوں کا ہونا، آپ کی وفات کی صورت میں بنیادی سم کورڈ ضرورت کے مطابق مالیاتی تحفظ فراہم نہیں کر سکے گا۔ ایڈیشنل ٹرم تکافل فائدہ زندگی کے تحفظ/سم کورڈ کو بڑھانے میں مدد فراہم کرے گا۔

- **تکافل ویور آف کنٹریبیوشن:**

کسی بیماری یا حادثے کی صورت میں اگر شریک تکافل کی آمدنی کا ذریعہ نہ رہے تو پلان کا کنٹریبیوشن ای ایف یو لائف ونڈو تکافل آپریشنز کے زیر انتظام چلنے والے پارٹیسپنٹس تکافل فنڈ (پی ٹی ایف) سے ادا کیا جائے گا۔

- **تکافل لائف کیئر اینہانسڈ بینیفٹ:**

تشویشناک بیماری کے تحفظات جو طے شدہ 20 تشویشناک بیماریوں میں سے کسی کی تشخیص پر یا واقع ہونے پر ایک نقد رقم فراہم کرتا ہے۔

- **کفالت بینیفٹ:**

یہ فائدہ اس امر کو یقینی بناتا ہے کہ شرکت کنندہ کی ناگہانی وفات کی صورت میں، اس کے اہل خانہ کو ایک ماہانہ آمدنی ادا کی جاتی ہے۔

***ایکسیڈنٹل ڈیتھ بینیفٹس میں سے صرف ایک کا ہی انتخاب کیا جا سکتا ہے**

یونٹ کی ایلوکیشن:

شریک تکافل کے کنٹریبیوشن کی سالانہ مختص کی جانے والی فیصد ذیل میں دی گئی ٹیبل میں دکھائی گئی ہیں:

پالیسی سال	ایلوکیشن	ایلوکیشن کی چارجز*
1	60فیصد	40فیصد
2	80فیصد	20فیصد
3	90فیصد	10فیصد
4 سے 5	100فیصد	0فیصد
6 اور آگے	105فیصد	0 فیصد

فنڈ ایکسلریشن کنٹریبیوشن کا 100 فیصد یونٹس کی خریداری کے لیے مختص ہو گا

*اوپر درج ٹیبل کے مطابق ہر سال ادا کیئے گئے کنٹریبیوشن / زرِتکافل میں سے تخصیص کی فیس منہاء کی جائے گی اور بقایا رقم اکاؤنٹ ویلیو کو مختص کی جائے گی

تخصیص کی بڑھوتری (ایلوکیشن بوسٹر):

مسلسل قائم رہنے والی پالیسیوں کیلیئے، یہ پلان فنڈ کے مجموعے کی قدر کو مزید بڑھانے کیلیئے قابل قدر بونس کی تخصیص پیش کرتا ہے۔

اضافی یونٹ کی تخصیص درج ذیل ہے:

پالیسی سال	بونس ایلوکیشن
7	5فیصد
10	7فیصد
15	9 فیصد
20	12فیصد
25	17فیصد
ہر 5 سال کے بعد، 30، 35 اور آگے	20فیصد

اضافی اختیاری کنٹریبیوشن (فنڈ ایکسلریشن کنٹریبیوشن):

اگر شریک تکافل کے پاس مزید رقم موجود ہو تو آپ اس رقم کو موجودہ پلان میں شامل کر کے اپنی جمع شدہ رقم میں اوراضافہ کر سکتے ہیں۔

اس یکمشت رقم کو اضافی اختیاری کنٹریبیوشن کہتے ہیں اور اس کو دورانِ مدت پلان میں کسی بھی وقت جمع کروایا جاسکتا ہے۔

اضافی اختیاری کنٹریبیوشن کی ادائیگیوں کا 100 فیصد منتخب شدہ فنڈ میں یونٹس کی خریداری کے لئے مختص کیا جاتا ہے۔

مکمل اور جزوی دستبرداری:

دو سال کے مکمل کنٹریبیوشنز ادا کر دئے جانے سے پہلے دستبرداری کی صورت میں ونڈو تکافل آپریٹر کل نقد قدر کے 50 فیصد کے مساوی اضافی وکالۃ الاستثمار فیس چارج کرے گا۔ دستبرداری کے وقت، آپ کو اپنے فنڈ کی کل نقد قدر ادا کی جائے گی۔ البتہ، رکنیت کے ابتدائی سالوں میں نقد قدر کم ہونے کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ جزوی دستبرداری فنڈ میں 20,000 روپے موجود رہنے سے مشروط ہے۔

اگر صارف مکمل دستبرداری کا انتخاب کرتا ہے تو تمام یونٹس کو کیش ویلیو میں تبدیل کر دیا جائے گا اور پلان کو ختم کر دیا جائے گا۔

افراطِ زر (انڈیکسیشن):

اس اختیار کے تحت ہر سال بغیر کسی طبی ثبوت کے، آپ کا باقاعدہ کنٹریبیوشن پچھلے سال کے کنٹریبیوشن کا 5 فیصد بڑھ جائے گا۔ اسی طرح، بنیادی پلان کا زرِ تحفظ اور کوئی بھی ضمنی فائدہ بھی اسی تناسب سے بڑھ جائیں گے۔ البتہ، زرِ تحفظ کو ابتدائی درجے پر رکھتے ہوئے صرف کنٹریبیوشن بڑھانے کا انتخاب بھی کیا جاسکتا ہے۔

دعوٰی (کلیم):

کسی بھی ناگہانی کی صورت میں، آپ اپنے دعوے (کلیم) کی اطلاع بینک اسلامی کی کسی بھی شاخ میں جاکر، ای ایف یو ہیڈ آفس آکر یا ملک میں ای ایف یو کی کسی بھی شاخ میں جاکر دے سکتے ہیں۔ فوری عمل درآمد کے لئے آپ ہمارے کال سینٹر 021-111-338-436 پر رابطہ کرسکتے ہیں یا ہماری ویب سائٹ پر موجود اطلاع فارم بھریئے اور ہمیں cod@efuhemayahtakaful.com پر ای میل کردیجئے۔ بعدازاں، اگلے مراحل سے آگاہ کرنے کے لئے آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔

عمومی طور پوچھے جانے والے سوالات:

قابلِ اطلاق عمر اور مدت کیا ہے؟

شریک تکافل کی عمر 18 سے 65 کے درمیان ہونی چاہیے۔ البتہ، میچورٹی پر زیادہ سے زیادہ عمر 75 سال سے تجاوز نہ کرتی ہو۔ تکافل کی مدت 10 اور 57 سال کے درمیان کم زیادہ ہوسکتی ہے، جو کہ میچورٹی پر زیادہ سے زیادہ 75 سال کی عمر سے مشروط ہے۔

کم از کم کنٹریبوشن کی حدود کیا ہیں؟

شرکاء کے لئے کم از کم کنٹریبیوشن 24,000 روپے سالانہ ہے۔

اخراجات (چارجز) کیا ہیں؟

چارجز	ریٹ/ پاکستان روپے میں
انتظامی اخراجات (ایڈمنسٹریشن چارج)	150 روپے ماہانہ
بڈ/ آفر (بولی/ پیشکش) سپریڈ	مختص شدہ بنیادی اور اضافی فنڈ کنٹری بیوشن کا 5 فیصد
سرمایہ کاری انتظامات اخراجات (انویسٹمنٹ مینجمنٹ چارج)	فنڈ قدر کا 0.125 فیصد ماہانہ
ایلوکیشن چارج	اوپر دیئے گے ایلوکیشن ٹیبل کے مطابق
اضافی وکالتہ الاستثمار فیس چارج	دو سال کے مکمل کنٹریبیوشن ادا کردیئے جانے سے پہلے دستبرداری کی صورت میں کل نقد قدر کے 50 فیصد کے مساوی اضافی وکالتہ الاستثمار فیس چارج کیا جائے گا۔

تکافل ڈونیشن (وقف ڈونیشن):

شریک تکافل کی عمر اور سم ایٹ رسک کے حساب سے ایکچوریل کی طرف سے مقرر کردہ رقم جو کہ شریک تکافل فنڈ میں ہر سال جمع کی جائیگی۔ البتہ جب کیش ویلو سم کورڈ (ذرتحفظ) سے بڑھ جائے تو تکافل ڈونیشن کی مد میں کوئی رقم منہا نہیں کی جائے گی۔

- **وقف فنڈ سے وکالہ خرچ:**

تکافل عطیے کا 40 فیصد

انتباہ:

- اس پروڈکٹ کی انڈر رائیٹنگ ای ایف یو لائف ونڈو تکافل آپریشنز کی طرف سے کی گئی ہے۔ یہ بینک اسلامی یا اس سے وابستہ کسی بھی ادارے کی طرف سے ضمانت شدہ کی ہوئی نہیں ہے اور نہ ہی یہ بینک اسلامی کی پروڈکٹ ہے۔ چنانچہ ای ایف یو لائف تکافل سے متعلق تمام رسک کا ذمہ دار ہے۔
- بینک اسلامی اپنے قابل قدر صارفین کے لئے اس پروڈکٹ کے لئے صرف بہ طور پروموٹر/تقسیم کار اور کارپوریٹ تکافل ایجنٹ کام کر رہا ہے۔
- تکافل پالیسیوں سے متعلق تکافل کے تمام کلیمز، اخراجات اور ادائیگیوں کے انتظامات ای ایف یو لائف ونڈو تکافل آپریشنز کی مکمل اور مخصوص ذمہ داری ہونگے پلان میں کیئے گئے کنٹری بیوشنز فنڈز کی سرمایہ کاری فنڈز میں کی جاتی ہے۔
- فنڈ کی آئندہ کی کارکردگی کا لازمی دارومدار پچھلی کارکردگی پر نہیں ہوتا۔ کسی قسم کا پیشگی اندازہ ضروری نہیں کہ مستقبل کی ترجمانی کرے یا فنڈز کی ممکنہ کارکردگی کو بیان کرے اور نہ ہی ای ایف یو لائف ونڈو تکافل آپریشنز اور نہ ہی بینک اسلامی اس قسم کی کسی چیز کا ذمہ دار ہوگا
- فوائد کی ایک انفرادی وضاحت ہمارے کنسلٹنٹ کی طرف سے آپ کو فراہم کی جائے گی۔ ازراہِ کرم مختلف شرائط وضوابط کی تفصیلی وضاحت حاصل کرنے کے لئے پالیسی دستاویز کا مطالعہ کریں؛ آپ کی جانب سے پلان کی شرائط وضوابط کی مکمل تفہیم مطلوب ہے
- سروس اخراجات اور ٹیکسیز کا اطلاق بینک کے شیڈول آف چارجز اور متعلقہ اتھارٹیوں کی طرف سے مقررہ ٹیکس قوانین کے مطابق ہوگا۔
- اگر آپکو اپنی تکافل پالیسی سے متعلق کوئی بھی شکایات ہو تو، آپ ای ایف یو لائف ونڈو تکافل آپریشنز .(021) 111-EFU-HEM (111-338-436) سے رابطہ کر سکتے ہے

EFU LIFE

HEMAYAH
EFU FAMILY TAKAFUL

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم

شرعیہ کمپلائینس سرٹیفکیٹ

ای ایف یو لائف ایشورنس لمیٹڈ۔ونڈو تکافل آپریشنز

ای ایف یو لائف ایشورنش لمیٹڈ۔ونڈو تکافل آپریشنز کے شرعی مشیر ہونے کی حیثیت سے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے **ای ایف یو نگہبان پلان** کا جائزہ لیا ہے جو کہ **بینک اسلامی** کے توسل سے تقسیم کیا جارہا ہے۔ یہ تکافل پلان وقف اور وکالت کے اصولوں پر مبنی ہے۔

نیز میں نے اس مذکورہ اسکیم کے دستاویزی کاغذات اور متعلقہ دیگر امور بشمول سرمایہ کاری وغیرہ کا بغور مطالعہ کیا ہے اور بحمداللہ میں نے ان تمام امور کو شریعت کے مطابق پایا ہے۔لہٰذا میری رائے میں ای ایف یو لائف ایشورنس لمیٹڈ۔ ونڈو تکافل آپریشنز کی مذکورہ اسکیم کی رکنیت حاصل کرنا اور اس سے فوائد حاصل کرنا شرعاً جائز ہے۔واللہ سبحانہ تعالی اعلم

تاریخ: ۳۰ جون ۲۰۲۴

مُفتی
محمد اِبراھیم عیسٰی
شریعہ ایڈوائزر
حمایہ
ای ایف یو لائف۔ ونڈو تکافل آپریشنز

مفتی محمد ابراہیم عیسٰی
شرعی مشیر

ای ایف یو لائف ایشورنس لمیٹڈ

ای ایف یو ہاؤس، پلاٹ نمبر 112، 8th، اسٹریٹ، فیزون، ڈی ایچ اے، کراچی، پاکستان۔
فیکس: 3453-7519 (021) ای میل: csd@efuhemayahtakaful.com